

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو ایک پُر جوش اور کایا پلٹ تبدیلی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن - ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بڑی شاندار تبدیلی آنے والی ہے! برامپٹن سٹی کونسل نے آج متفقہ طور پر ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ کے اقدامات کے لیے پراجیکٹس کے سفارش کردہ منصوبوں پر کام شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ پراجیکٹ، جس میں شہر کے مرکز میں اہم انفراسٹرکچر اور بڑے پیمانے پر سڑکوں پر کام شامل ہے، ریجن آف پیل کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری میں نافذ کیا جا رہا ہے۔

اس پراجیکٹ میں شامل ہیں:

- موجودہ پرانے ہوتے ہوئے برساتی نالوں کی تبدیلی اور مرمت؛
- نئی نالیوں اور گندے پانی اور برساتی نالوں اور مستقبل کی بڑھوتری کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے دیگر یوٹیلیٹیز نصب کرنا؛ اور
- نئی سڑکوں کی تعمیر

بروقت اور مؤثر تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے، تعمیر کے دوران اس علاقے میں گاڑیوں کی ٹریفک کو محدود کیا جائے گا، جو 2.5 سے 3 سال تک چلنا متوقع ہے۔ رجن آف پیل خزاں 2018 میں اہم انفراسٹرکچر پر کام شروع کرے گا۔ پورے پراجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہدفی تاریخ 2021 ہے۔

مکمل ہو جانے پر، ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ تاریخی فور کارنرز کے ارد گرد جمالیاتی طور پر خوب صورت سڑکوں کے ایک حسین امتزاج سے ایک متنوع عوامی حلقہ پیش کرے گا۔ نئی سڑکیں - مل اسٹریٹ ساؤتھ سے لے کر کوئین اسٹریٹ پر چیپل اسٹریٹ تک اور نیلسن اسٹریٹ ویسٹ سے مین اسٹریٹ پر ویلنگٹن اسٹریٹ تک - پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور گاڑیاں چلانے والوں کو ایک محفوظ اور قابل استحکام طریقے سے قریب لائے گا۔ اعلیٰ ڈیزائن کی کئی مختلف قسم کی سہولیات، مثلاً سڑک اور سائیڈ واک کے درمیان سائیکل لینز کا اضافہ، تاکہ پیدل چلنے والوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جا سکے اور سہولیات کو بہتر کیا جا سکے؛ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کا عوامی حلقہ بھی ایک زبردست تبدیلی کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہے۔

مزید معلومات، بشمول ویڈیوز، تصاویر اور اپ ڈیٹس، کے لیے، شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ www.brampton.ca/downtownreimagined پر سائن اپ کریں

کس چیز کی توقع کرنی چاہیے

- پوری ڈاؤن ٹاؤن کور میں پیدل چلنے والے افراد اور کاروباروں کے لیے رسائی کھلی رہے گی
- گاڑیوں کی ٹریفک کے لیے سڑک کی بندش کی توقع جارج اسٹریٹ اور چیپل اسٹریٹ کے درمیان کوئین اسٹریٹ پر (چوک کھلے رہیں گے) اور ویلنگٹن اسٹریٹ اور نیلسن اسٹریٹ ویسٹ (چوک کھلے رہیں گے) کے درمیان مین اسٹریٹ پر 2 سال کے لیے متوقع ہے۔
- جتنا زیادہ ممکن ہو سکے، شہر ان میلوں اور تقریبات کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، جو گارڈن اسکوائر یا کین ویلنڈ اسکوائر میں منعقد ہوتی ہیں۔
- سڑکوں پر اضافی نشانات اور راستہ تلاش کرنے کے طریقے ٹریفک میں کسی قسم کی تبدیلی سے پہلے لگائے جائیں گے، تاکہ عوام کو اپنے راستے کی منصوبہ بندی کے لیے کافی نوٹس دیا جا سکے۔ "کاروباروں کے لیے کھلا" کے نشانات تعمیر کے دوران شامل کیے جائیں گے۔
- تعمیر کے دوران پارکنگ گراج کی مراعات موجود ہوں گی۔

- آنے والے افراد کو راستہ تلاش کرنے کے بہتر طریقوں کے ذریعے موجودہ پانچ گراہوں تک لے جایا جائے گا۔

اقتباسات

"برامپٹن کے لوگ اب بول رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا مزید متنوع شہر چاہتے ہیں، جو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے ایک پرجوش جگہ ہو۔ ہمارا ڈاؤن ٹاؤن تبدیلی کے کنارے پر موجود ہے – ہمارے پاس ایک نئی یونیورسٹی آ رہی ہے، ایک نئے سنٹر فار انوویشن پر کام ہو رہا ہے اور یہ پراجیکٹ ہر پرجوش چیز کی شروعات ہے۔"

- کونسلر ٹوگ ویلینز، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ کمیٹی

"ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ برامپٹن 2040 ویژن کو پورا کرنے کے پہلے مراحل میں سے ایک ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن سرگرمیوں کا گڑھ ہو گا، چونکہ ہم کئی زبردست اقدامات اٹھا رہے ہیں، نئی ترقی اور بڑھوتری لا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعمیر کا بہت بڑا اثر ہو گا اور ہم تعمیر کے دوران خلل کو کم سے کم کرنے اور تریفک اور بیدل چلنے والے افراد کی حرکت کی محفوظ طریقے سے منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے ریجن آف پبل میں اپنے شراکت داروں، ڈاؤن ٹاؤن BIA اور اپنے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- بیری شلینج، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](https://www.brampton.ca) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔